

# Tit

## Chapter 3

Urdu Interlinear

Reference: Urdu Geo Version

- 1 Ὑπομίμησε αὐτοὺς ἀρχαῖς, ἔξουσίαις, ὑποτάσσεσθαι, πειθαρχεῖν; πρὸς πᾶν  
یاد-دلا انہیں کے حکمرانوں کے اختیارات کے تابع ہونا فرمانبردار ہونا لیے ہر  
[G5279](#) [G0846](#) [G0746](#) [G1849](#) [G5293](#) [G3980](#) [G4314](#) [G3956](#)
- ἔργον ἀγαθὸν, ἐτοίμους εἶναι;  
کام اچھے تیار ہونا  
[G2041](#) [G0018](#) [G2092](#) [G1510](#)

رہیں، تیار لئے کے کرنے کام نیک ہر وہ رہیں۔ بردار فرماں اور تابع کے والوں اختیار اور حکمرانوں وہ کہ دلانا یاد انہیں

- 2 μηδένα βλασφημεῖν, ἀμάχους εἶναι, ἐπεικεῖς, πᾶσαν ἐνδεικνυμένουςπραϋτητα  
کسی-کی بد-گوئی-نہ-کرنا بے-جھگڑا ہونا نرم ہر دکھاتے-ہوئے حلیمی  
[G3367](#) [G0987](#) [G0269](#) [G1510](#) [G1933](#) [G3956](#) [G1731](#) [G4240](#)
- πρὸς πάντας ἀνθρώπους.  
ساتھ سب لوگوں کے  
[G4314](#) [G3956](#) [G0444](#)

آئیں۔ پیش سے مزاجی نرم ساتھ کے لوگوں تمام اور ہوں دل نرم اور پسند امن لگائیں، نہ تہمت پر کسی

- 3 Ἔμην γάρ ποτε καὶ ἡμεῖς ἀνόητοι, ἀπειθεῖς, πλανώμενοι, δουλεύοντες  
تھے کیونکہ کبھی بھی ہم بے-وقوف نا-فرمان بھٹکے-ہوئے غلامی-کرتے-تھے  
[G1510](#) [G1063](#) [G4218](#) [G2532](#) [G1473](#) [G0453](#) [G0545](#) [G4105](#) [G1398](#)
- ἐπιθυμίαις καὶ ἠδοναῖς ποικίλαις, ἐν κακίᾳ καὶ φθόνῳ διάγοντες, στυγητοί,  
خواہشات-کی اور لذتوں-کی مختلف میں بدی اور حسد-میں گزارتے-تھے نفرت-انگیز  
[G1939](#) [G2532](#) [G2237](#) [G4164](#) [G1722](#) [G2549](#) [G2532](#) [G5355](#) [G1236](#) [G4767](#)
- μισοῦντες ἀλλήλους.  
نفرت-کرتے-تھے ایک-دوسرے-سے  
[G3404](#) [G0240](#)

غلامی کی خواہشوں غلط اور شہوتوں کی طرح کئی ہم وقت اُس تھے۔ ہوئے بھٹکے سے راہ صحیح اور نافرمان ناسمجھ، بھی ہم جب تھا وقت ایک کیونکہ تھے۔ کرتے نفرت سے اُن بھی ہم اور تھے کرتے نفرت سے ہم دوسرے تھے۔ گزارتے زندگی میں کرنے حسد اور کاموں بُرے ہم تھے۔ میں

- 4 ὅτε δὲ ἡ χρηστότης καὶ ἡ φιλάνθρωπία ἐπεφάνη, τοῦ Σωτῆρος  
جب لیکن وہ مہربانی اور وہ انسان-دوستی ظاہر-ہوئی کے نجات-دہندہ  
[G3753](#) [G1161](#) [G3588](#) [G5544](#) [G2532](#) [G3588](#) [G5363](#) [G2014](#) [G3588](#) [G4990](#)
- ἡμῶν, Θεοῦ,  
ہمارے خدا-کے  
[G1473](#) [G2316](#)

ہوئی ظاہر محبت اور مہربانی کی اللہ دہندہ نجات ہمارے جب لیکن

|   |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 5 | οὐκ                   | ἐξ                    | ἔργων                 | τῶν                   | ἐν                    | δικαιοσύνη,           | ἃ                     | ἐποιήσαμεν            | ἡμεῖς,                | ἀλλὰ                  | κατὰ                  |
|   | نہیں                  | سے                    | کاموں                 | آن                    | میں                   | راستبازی              | جو                    | ہم نے کیے             | ہم                    | بلکہ                  | مطابق                 |
|   | <a href="#">G3756</a> | <a href="#">G1537</a> | <a href="#">G2041</a> | <a href="#">G3588</a> | <a href="#">G1722</a> | <a href="#">G1343</a> | <a href="#">G3739</a> | <a href="#">G4160</a> | <a href="#">G1473</a> | <a href="#">G0235</a> | <a href="#">G2596</a> |
|   | τὸ                    | αὐτοῦ                 | ἔλεος,                | ἔσωσεν                | ἡμᾶς,                 | διὰ                   | λουτροῦ               | παλιγγενεσίας,        | καὶ                   | ἀνακαινώσεως          |                       |
|   | کے                    | اپنے                  | رحم                   | بچایا                 | ہمیں                  | ذریعے                 | غسل کے                | نئی-پیدائش کے         | اور                   | تجدید کے              |                       |
|   | <a href="#">G3588</a> | <a href="#">G0846</a> | <a href="#">G1656</a> | <a href="#">G4982</a> | <a href="#">G1473</a> | <a href="#">G1223</a> | <a href="#">G3067</a> | <a href="#">G3824</a> | <a href="#">G2532</a> | <a href="#">G0342</a> |                       |
|   | Πνεύματος             | Ἁγίου;                |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
|   | روح                   | القدس کے              |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
|   | <a href="#">G4151</a> | <a href="#">G0040</a> |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |

نے جس بچایا سے وسیلے کے القدس روح ہمیں نے ہی رحم کے اس بلکہ کی حاصل نجات باعث کے کرنے کام راست نے ہم کہ نہیں یہ بچایا۔ ہمیں نے اس تو کی۔ عطا زندگی نئی اور دیا جنم سے سرے نئے کر دھو ہمیں

|   |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 6 | οἷ                    | ἐξέχεεν               | ἐφ’                   | ἡμᾶς                  | πλουσίως,             | διὰ                   | Ἰησοῦ                 | Χριστοῦ,              | τοῦ                   | Σωτῆρος               | ἡμῶν,                 |
|   | جس                    | انڈیلا                | پر                    | ہم پر                 | فراوانی سے            | ذریعے                 | یسوع                  | مسیح                  | وہ                    | نجات دہندہ            | ہمارے                 |
|   | <a href="#">G3739</a> | <a href="#">G1632</a> | <a href="#">G1909</a> | <a href="#">G1473</a> | <a href="#">G4146</a> | <a href="#">G1223</a> | <a href="#">G2424</a> | <a href="#">G5547</a> | <a href="#">G3588</a> | <a href="#">G4990</a> | <a href="#">G1473</a> |

دیا انڈیل پر ہم سے وسیلے کے مسیح عیسیٰ دہندہ نجات ہمارے سے فیاضی بڑی کو روح اس اپنے نے اللہ

|   |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 7 | ἵνα                   | δικαιωθέντες          | τῇ                    | ἐκείνου               | χάριτι,               | κληρονόμοι            | γενηθῶμεν,            | κατ’                  | ἐλπίδα                |
|   | تاکہ                  | راستباز-ٹھہرائے گئے   | وہ                    | اس کے                 | فضل سے                | وارث                  | بنیں                  | مطابق                 | امید                  |
|   | <a href="#">G2443</a> | <a href="#">G1344</a> | <a href="#">G3588</a> | <a href="#">G1565</a> | <a href="#">G5485</a> | <a href="#">G2818</a> | <a href="#">G1096</a> | <a href="#">G2596</a> | <a href="#">G1680</a> |

ζωῆς  
زندگی کی

αἰωνίου.  
ابدی

[G2222](#) [G0166](#)

ہیں۔ رکھتے ہم امید کی جس جائیں بن وارث کے زندگی ابدی اس ہم اور جائے دیا قرار باز راست سے فضل کے اس ہمیں تاکہ

|   |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 8 | Πιστὸς                | ὁ                     | λόγος,                | καὶ                   | περὶ                  | τούτων                | βούλομαί              | σε                    | διαβεβαιοῦσθαι,       | ἵνα                   |
|   | قابل-اعتماد           | ہے                    | کلام                  | اور                   | ان سے                 | میں-چاہتا ہوں         | تجھے                  | تاکید کرنا            | تاکہ                  |                       |
|   | <a href="#">G4103</a> | <a href="#">G3588</a> | <a href="#">G3056</a> | <a href="#">G2532</a> | <a href="#">G4012</a> | <a href="#">G3778</a> | <a href="#">G1014</a> | <a href="#">G4771</a> | <a href="#">G1226</a> | <a href="#">G2443</a> |

φροντίζωσιν καλῶν ἔργων προϊστασθαι, οἱ πεπιστευκότες Θεῷ. ταῦτά ἐστιν

خیال کریں اچھے کاموں میں لگے رہنے کے وہ ایمان لائے ہوئے وہ خدا پر یہ ہیں

[G5431](#) [G2570](#) [G2041](#) [G4291](#) [G3588](#) [G4100](#) [G2316](#) [G3778](#) [G1510](#)

καλὰ καὶ ὠφέλιμα τοῖς ἀνθρώποις.

اچھی اور فائدہ مند لیے لوگوں کے

[G2570](#) [G2532](#) [G5624](#) [G3588](#) [G0444](#)

میں کرنے کام نیک سے دھیان وہ ہیں لائے ایمان پر اللہ جو تاکہ دیں زور خاص پر باتوں ان آپ کہ ہوں چاہتا میں ہے۔ سکتا جا کیا اعتماد پورا پر بات اس ہیں۔ مفید اور اچھی لئے کے سب باتیں یہ رہیں۔ لگے

|   |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 9 | μωρὰς                 | δὲ                    | ζητήσεις              | καὶ                   | γενεαλογίας           | καὶ                   | ἔρεις                 | καὶ                   | μάχας                 | νομικὰς,              |
|   | بیوقوف                | لیکن                  | سوالات سے             | اور                   | نسب ناموں سے          | اور                   | جھگڑوں سے             | اور                   | لڑائیوں سے            | شرعی                  |
|   | <a href="#">G3474</a> | <a href="#">G1161</a> | <a href="#">G2214</a> | <a href="#">G2532</a> | <a href="#">G1076</a> | <a href="#">G2532</a> | <a href="#">G2054</a> | <a href="#">G2532</a> | <a href="#">G3163</a> | <a href="#">G3544</a> |

περιίτασο; εἰσὶν γὰρ ἀνωφελεῖς καὶ μάταιοι.

دور رہے ہیں کیونکہ بے فائدہ اور بیکار

[G4026](#) [G1510](#) [G1063](#) [G0512](#) [G2532](#) [G3152](#)

ہے۔ فضول اور بے فائدہ کرنا ایسا کیونکہ رہیں، باز سے تنازعوں میں بارے کے شریعت اور جھگڑوں ناموں، نسب بحثوں، بے بودہ لیکن

|    |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
|----|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 10 | αἰρετικὸν             | ἄνθρωπον,             | μετὰ                  | μίαν                  | καὶ                   | δευτέραν              | νουθεσίαν,            | παραίτου,             |
|    | بدعتی                 | آدمی سے               | بعد                   | ایک                   | اور                   | دوسری                 | نصیحت کے              | نال دے                |
|    | <a href="#">G0141</a> | <a href="#">G0444</a> | <a href="#">G3326</a> | <a href="#">G1520</a> | <a href="#">G2532</a> | <a href="#">G1208</a> | <a href="#">G3559</a> | <a href="#">G3868</a> |

کریں۔خارج سے رفاقت اُسے تو مانے نہ بھی بعد کے اِس وہ اگر سمجھائیں۔ بار دو اُسے بے باز پارٹی شخص جو

- 11 εἰδὼς ὅτι ἐξέστραπται ὁ τοιοῦτος, καὶ ἁμαρτάνει, ὦν  
جانتے-ہوئے کہ بگڑ-گیا-بے وہ ایسا اور گناہ-کرتا-بے ہوتے-ہوئے  
G1492 G3754 G1612 G3588 G5108 G2532 G0264 G1510

αὐτοκατάκριτος.

اپنے-آپ-قصوروار  
G0843

بے۔ٹھہرایا مجرم کو آپ اپنے سے حرکتوں اپنی نے اُس بے۔ ہوتا ہوا پھنسا میں گناہ اور بے پر راہ غلط شخص ایسا کہ گا ہو پتا کو آپ کیونکہ

- 12 Ὄταν πέμψω Ἄρτεμᾶν πρὸς σέ, ἧ Τυχικόν, σπούδασον ἐλθεῖν πρὸς με  
جب بھیجوں ارطماس-کو پاس تیرے یا تخیس-کو جلدی-کر آنے-کو میرے پاس  
G3752 G3992 G0734 G4314 G4771 G2228 G5190 G4704 G2064 G4314 G1473

εἰς Νικόπολιν; ἐκεῖ γὰρ κέκρικα παραχειμάσαι.  
نیکوپولس کو وہاں کیونکہ ہے میں-نے-فیصلہ-کیا-ہے سردی-گزارنے-کی  
G1519 G3533 G1563 G1063 G2919 G3914

بے لیا کر فیصلہ نے میں کیونکہ ہوں، میں شہر نیکپولس میں کریں۔ جلدی میں آنے پاس میرے تو گا دوں بھیج پاس کے آپ کو ٹخس یا ارتماس میں جب گزاروں۔یہاں موسم کا سردیوں کہ

- 13 Ζηῶν τὸν νομικὸν καὶ Ἀπολλῶν σπουδαίως πρόπεμψον, ἵνα μηδὲν αὐτοῖς  
زیناس-کو وہ وکیل اور اپلوس-کو سے اہتمام-سے روانہ-کر تاکہ کچھ-نہیں انہیں  
G2211 G3588 G3544 G2532 G0625 G4709 G4311 G2443 G3367 G0846

λείπη.

کمی-ہو  
G3007

جائے۔کی پوری ضرورت ہر کی اُن کہ رکھیں خیال کریں۔ مدد کی اُن تو ہیں رہے کر تیاریاں کی سفر اپلوس اور وکیل زیناس جب

- 14 μανθανέτωσαν δὲ καὶ οἱ ἡμέτεροι, καλῶν ἔργων προϊστασθαι, εἰς τὰς  
سیکھیں لیکن بھی وہ ہمارے اچھے کاموں-میں لگے-ربنا لیے اُن  
G3129 G1161 G2532 G3588 G2251 G2570 G2041 G4291 G1519 G3588

ἀναγκαίας χρείας, ἵνα μὴ ὦσιν ἄκαρποι.  
ضروری ضرورتوں-کے تاکہ نہ ہوں بے-پھل  
G0316 G5532 G2443 G3361 G1510 G0175

نکلیں۔بے پھل وہ آخرکار کہ ہو نہ ایسا ہے، ضرورت بہت جہاں کر خاص سیکھیں، ربنا لگے میں کرنے کام نیک لوگ ہمارے کہ بے لازم

- 15 Ἀσπάζονται σε, οἱ μετ' ἐμοῦ πάντες, ἄσπασαι τοὺς φιλοῦντας ἡμᾶς  
سلام-بھیجتے-ہیں تجھے وہ ساتھ میرے سب سلام-کہ کو محبت-کرنے-والوں-کو ہمیں  
G0782 G4771 G3588 G3326 G1473 G3956 G0782 G3588 G5368 G1473

ἐν πίστει. Ἡ χάρις μετὰ πάντων ὑμῶν. <Ἀμήν>.  
میں ایمان-میں وہ فضل ساتھ سب-کے تمہارے آمین  
G1722 G4102 G3588 G5485 G3326 G3956 G4771 G0281

رہے۔ہوتا ساتھ کے سب آپ فضل کا اللہ ہیں۔ رکھتے محبت سے ہم میں ایمان جو دینا سلام میرا اُنہیں ہیں۔ کہتے سلام کو آپ ہیں ساتھ میرے جو سب